

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹے اور روح القدس
کے نام پر

آمین

سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا
فضل ، اور خدا کی محبت ، اور
روح القدس کی میل جول آپ
سب کے ساتھ رہیں

اور اپنی روح کے ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئیے ہم
اپنے گناہوں کو تسلیم کریں ، اور
اس طرح مقدس اسرار کو منانے
کے لئے خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا
ہوں اور آپ کے لئے ، میرے بھائیو
اور بہنیں ، کہ میں نہایت گناہ
کیا ، میرے خیالات میں اور
میرے الفاظ میں ، میں نہ کیا کیا
اور میں کیا کرنے میں ناکام
رہا ہوں ، میری غلطی کے ذریعے
، میری غلطی کے ذریعے ، میری
انتہائی تکلیف دہ غلطی کے
ذریعے ؛ لہذا میں مبارک مریم کو
میشہ کے ویرگین سے پوجھتا
ہوں ، تمام فرشتے اور سنت ،
اور آپ ، میرے بھائیو اور بہنیں ،
میرے لئے خداوند مار خدا سے
دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ،
مار گناہوں کو معاف کرے ،
اور ہمیں لازوال زندگی میں
لائیے

Bulgarian (بългарски език)

Встъпителни обреди

Знак за кръста

В името на Отца и на Сина и на Светия
Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашия Господ Исус
Христос, И любовта на Бог, и общение
на Светия Дух Бъдете с всички вас.

И с вашия дух.

Наказателен акт

Братя (братя и сестри), нека признаем
нашите грехове, И така се подготвяйте
да отпразнуваме свещените мистерии.

Признавам си на Всемогъщия Бог И на
вас, моите братя и сестри, че съм силно
съгрешил, В моите мисли и по думите
ми, в това, което съм направил и в това,
което не успях да направя, по моя вина,
по моя вина, чрез най-тежката ми вина;
Затова питам благословена Мери Евър-
Виргин, Всички ангели и светии, И вие,
моите братя и сестри, да се молим за
мен на Господа, нашия Бог.

Нека всемогъщият Бог да ни смили,
прости ни нашите грехове, и ни доведе
до вечен живот.

Urdu (اردو)

آمین
کیری

رب رحم کر
رب رحم کر
مسیح، رحم کرو.
مسیح، رحم کرو.
رب رحم کر
رب رحم کر
گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے
امن میں تیری تعریف کرتے ہیں،
میں آپ کو برکت دیتے ہیں، میں
آپ کو پسند کرتے ہیں، میں تیری
تسبیح کرتے ہیں، میں تیری عظیم
شان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے
ہیں، خداوند خدا، آسمانی
بادشاہ، خدا، قادر مطلق
باپ خداوند یسوع مسیح، اکلوتا
بیٹا، خداوند خدا، خدا کا بیٹا، باپ
کا بیٹا، آپ دنیا کے گناہوں کو دور
کرتے ہیں، میں پر رحم فرما آپ
دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
میری دعا قبول کرو تم باپ کے
دانداتھ بیٹھو، میں پر رحم
فرما۔ آپ کے لیے اکیلا ہی
مقدس ہیں، صرف تو ہی رب
صرف آپ ہی اعلیٰ ترین
ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
روح القدس کے ساتھ، خدا باپ
کے جلال میں آمین
جمع کریں

میں نمازی پڑھ دو۔

آمین
کلام کی کٹائی
پہلا پڑھنا

Bulgarian (български език)

Амин
Кири

Господ е милостив.
Господ е милостив.
Христос, смили се.
Христос, смили се.
Господ е милостив.
Господ е милостив.
Глория

Слава на Бога в най-високото, и на
земята мир на хората с добра воля. Ние
те хваляме, Благословим те, Обожаваме
те, Ние те прославяме, Благодарим ви
за вашата страхотна слава, Господи
Боже, небесен цар, Боже, Всемогъщ
Отец. Господи Исусе Христос, само роди
Сине, Господи Бог, Агнец Божи, Син на
Отец, Вие отнемате греховете на света,
смили ни; Вие отнемате греховете на
света, Получаваме нашата молитва; Вие
сте седнали от дясната ръка на бащата,
Поемете ни. Само за теб са светите, ти
сам си Господ, ти сами сте най-
високите, Исус Христос, със Светия Дух,
В Божията слава Отец. Амин.

Събиране

Нека се помолим.

Амин.

Литургия на думата

Първо четене

Urdu (اردو)

رب کا کلام
خدا کا شکر .
ذم داری زیور
دوسری پڑھنا
رب کا کلام
خدا کا شکر .
انجیل

رب آپ کے ساتھ و
اور اپنی روح کے ساتھ
کے مطابق مقدس انجیل سے N
ایک پڑھنا

ا رب، تیری شان

خداوند کی انجیل

خداوند یسوع مسیح آپ کی
ستائش کریں
ایمان کا پیش

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر
مطلق باپ، آسمان اور زمین کا
بنا، والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام
چیزوں میں سے میں ایک
خداوند یسوع مسیح پر یقین
رکھتا ہوں، خدا کا اکلوتا بیٹا،
تمام عمروں سے پہلے باپ سے
پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی
سے روشنی، سچے خدا سے سچا
خدا، پیدا ہوا، زمین بنایا گیا، باپ
کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس
کے ذریعے تمام چیزیں بنی تھیں
ہمارے آدمیوں کے لیے اور ہماری
نجات کے لیے اور آسمان سے نیچے
آیا، اور روح القدس کے ذریعے
کنواری مریم کا اوتار تھا، اور
انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و
یونانی پیلطس کے تحت
مصلوب ہوا، اس کی موت ہوئی
اور اسے دفن کیا گیا اور تیسرے
دن دوبارہ جی اٹھا صحیفوں کے

Bulgarian (български език)

Словото на Господ.
Благодаря на Бога.
Отговор за псалм
Второ четене
Словото на Господ.
Благодаря на Бога.
Евангелие

Господ бъде с теб.

И с вашия дух.

Четене от Светото Евангелие според N.

Слава за теб, Господи

Евангелието на Господ.

Хвалете се на вас, Господи Исус
Христос.

Професия на вярата

Вярвам в един Бог, Отец Всемогъщ,
създател на небето и земята, от всички
видими и невидими неща. Вярвам в
един Господ Исус Христос,
Единственият роден Божи Син, Роден
от бащата преди всички възрасти. Бог
от Бог, Светлина от светлина, Истински
Бог от истински Бог, роден, не е
направен, съгласуван с бащата; Чрез
него бяха направени всички неща. За
нас хората и за нашето спасение той
слезе от небето, и чрез Светия Дух
беше въплътен на Богородица, и стана
човек. За нас той беше разпнат под
Понтий Пилат, Той е претърпял смърт и
е бил погребан, И се издигна отново на
третия ден В съответствие с Писанията.
Той се възкачи на небето и е седнал от
дясната ръка на бащата. Той ще дойде
отново в слава да съди живите и
мъртвите И Неговото царство няма да

Urdu (اردو)

مطابق و آسمان پر چڑھ گیا
اور باپ کے دانہ اتھ پر بیٹھا
و پھر جلال میں آئے گا
زند اور مرد کا فیصلہ کرنا اور
اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا
نہ ہوگی میں میں روح القدس پر
یقین رکھتا ہوں، خداوند، زندگی
دینے والا، جو باپ اور بیٹے سے
نکلتا، جو باپ اور بیٹے کے
ساتھ سجد اور جلالی، جس
نہ نبیوں کے ذریعے کلام کیا
میں ایک، مقدس، کیتھولک اور
رسولی چرچ پر یقین رکھتا ہوں
میں گناہوں کی معافی کے لیے
ایک پینتسم کا اقرار کرتا ہوں
اور میں مُردوں کے جی اُٹھنے کا
منتظر ہوں اور آئے والی دنیا
کی زندگی آمین

homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں
اے رب، ہماری دعا سن

یوکرسٹ کی
لیٹورجی

آفری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو
دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بہنو)،
کہ میری اور تمہاری قربانی ہو
سکتا ہے اللہ کو قبول ہو قادر
مطلق باپ۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے
اس کے نام کی تعریف اور جلال
کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور
اس کے تمام مقدس چرچ کی
بھلائی

آمین

Bulgarian (български език)

има край. Вярвам в Светия Дух, Господ,
даряващият живот, който пристъпва от
бащата и сина, който с бащата и сина е
обожаван и прославен, който е говорил
през пророците. Вярвам в една,
свещена, католическа и апостолска
църква. Признавам едно кръщение за
прошката на греховете И с нетърпение
очаквам възкресението на мъртвите и
животът на предстоящия свят. Амин.

Хомилия

Универсална молитва

Ние се молим на Господа.

Господи, чуй нашата молитва.

Литургия на Евхаристията

Офтория

Благословен да бъде Бог завинаги.

Молете се, братя (братя и сестри), че
моята жертва и твоята може да е
приемливо за Бога, Всемогъщият баща.

Нека Господ да приеме жертвата на
вашите ръце за похвала и славата на
неговото име, За нашето добро и
доброто на цялата му Света Църква.

Амин.

Urdu (اردو)

یوکرسٹک دعا

رب آپ ک ساتھ و
اور اپنی روح ک ساتھ
اپن دلوں کو اٹھاؤ
م اُن کو رب کی طرف اُٹھاتا
ہیں
آئیے م رب اپن خدا کا شکر ادا
کریں

یہ صحیح اور منصفانہ
پاک، مقدس، پاک رب الافواج
آسمان و زمین تیر جلال سے
معمور ہیں حسنہ اعلیٰ میں
مبارک و جو خداوند ک نام
پر آتا حسنہ اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہیں
ا رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ
کریں جب تک آپ دوبار نہ
آئیں یا: جب م یہ روٹی کھاتا
ہیں اور یہ پیالہ پیتے ہیں، م
تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ا
رب، جب تک آپ دوبار نہ آئیں
یا: میں بچا، دنیا ک نجات
دند، آپ کی صلیب اور قیامت
کی طرف سے آپ نہ میں آزاد
کیا

آمین

اجتماعی رسم

نجات دند ک حکم پر اور
خدائی تعلیم ک ذریعہ تشکیل دیا
گیا، م یہ کذ کی جسارت
کرتے ہیں:

مار باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام: تیری
بادشاہی آئے، آپ کی مرضی
پوری و جائے گی زمین پر

Bulgarian (български език)

Евхаристийна молитва

Господ бъде с теб.
И с вашия дух.
Повдигнете сърцата си.
Вдигаме ги до Господа.

Нека благодарим на Господа, нашия
Бог.

Правилно е и справедливо.

Свети, свети, свят Господи Бог на
домакинните. Небето и земята са пълни
с вашата слава. Hosanna в най -
високата. Благословен е онзи, който
идва в името на Господа. Hosanna в най
-високата.

Мистерията на вярата.

Ние провъзгласяваме твоята смърт,
Господи, и изповядвайте възкресението
си Докато не дойдете отново. Или:
Когато ядем този хляб и пием тази
чаша, Ние провъзгласяваме твоята
смърт, Господи, Докато не дойдете
отново. Или: Спаси ни, спасител на
света, Защото от вашия кръст и
възкресение Вие сте ни освободили.

Амин.

Обред на причастие

В командата на Спасителя и се
формира от божественото учение,
смеем да кажем:

Нашият Отец, който е изкуство на
небето, осветено е твоето име; Твоето
царство дойде, Твоята ще свърши на
земята, както е на небето. Дайте ни

Urdu (اردو)

جیسا کہ آسمان میں آج کے دن میں ہماری روز کی روٹی د، اور ہماری خطائیں معاف فرما، جیسا کہ ہم ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو ہمارے خلاف گنا کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، لیکن ہمیں برائی سے بچا

میں برائی سے نجات د، ا رب، ہم دعا کرتے ہیں، مہربانی سے ہمارے دنوں میں امن عطا فرما، کہ تیری رحمت سے ہم ہمیشہ گنا سے آزاد ہو سکتے ہیں اور تمام پریشانیوں سے محفوظ جیسا کہ ہم مبارک امید کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے نجات دہندے، یسوع مسیح کی آمد

بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال آپ کا اب اور ہمیشہ کے لئے۔

خداوند یسوع مسیح، جس نے آپ کے رسولوں سے کہا: امن میں آپ کو چھوڑنا ہوں، اپنا امن میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت دیکھو لیکن آپ کے چرچ کے ایمان پر، اور فضل سے اسے امن اور اتحاد عطا فرمائے، آپ کی مرضی کے مطابق جو ہمیشہ اور ابد تک زند اور حکومت کرتے ہیں

آمین

خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور اپنی روح کے ساتھ آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان پیش کریں

Bulgarian (български език)

този ден ежедневиият ни хляб, и ни прости нашите престъпления, Докато прощаваме на онези, които нарушават срещу нас; и ни води не в изкушение, Но ни избави от злото.

Избави ни, Господи, ние се молим от всяко зло, любезно дайте мир в нашите дни, че с помощта на вашата милост, Можем винаги да сме свободни от греха и безопасно от всички страдания, Докато очакваме благословената надежда и идването на нашия Спасител, Исус Христос.

За царството, Силата и славата са твои сега и завинаги.

Господи Исусе Христос, Кой каза на вашите апостоли: Мир, оставям ви, мир ми давам, Не гледайте на нашите грехове, Но за вярата на вашата църква, и любезно ѝ дават мир и единство в съответствие с вашата воля. Които живеят и царуват завинаги и някога.

Амин.

Господният мир е винаги с теб.

И с вашия дух.

Нека си предложим взаимно знака на мира.

Urdu (اردو)

خدا ک برّ ، تم دنیا ک گنا وں
کو دور کرتے ہو، م پر رحم
فرما۔ خدا ک برّ ، تم دنیا ک
گنا وں کو دور کرتے ہو، م پر
رحم فرما۔ خدا ک برّ ، تم دنیا
ک گنا وں کو دور کرتے ہو،
میں امن عطا فرما۔

خدا ک برّ کو دیکھو، اس کو
دیکھو جو دنیا ک گنا وں کو ل
جاتا مبارک ہیں و لوگ جو
برّ ک عشائیہ ک لی بلائ گئے
ہیں

ا رب، میں اس لائق نہیں ہوں
ک تم میری چہت ک نیچہ داخل
ہو، لیکن صرف لفظ ک و اور
میری جان ٹھیک ہو جائے گی
مسیح کا جسم (خون)

آمین

میں نماز پڑھنے دو۔

آمین

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ ک ساتھ ہو
اور اپنی روح ک ساتھ
قادر مطلق خدا آپ کو خوش
رکھ، باپ، اور بیٹا، اور روح
القدس

آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم ہو گیا
یا: جاؤ اور خداوند کی انجیل کا
اعلان کرو یا: سکون سے جاؤ،
اپنی زندگی سے خداوند کی
تمجید کرو یا: سکون سے جاؤ
خدا کا شکر .

Bulgarian (български език)

Агнец Божи, ти отнема греховете на
света, Поемете ни. Агнец Божи, ти
отнема греховете на света, Поемете ни.
Агнец Божи, ти отнема греховете на
света, Дайте ни мир.

Ето агнешкото Бог, ето, който отнема
греховете на света. Благословени са
тези, призовани на вечерята на Агнето.

Господи, не съм достоен че трябва да
влезете под моя покрив, но само
кажете, че думата и душата ми ще
бъдат излекувани.

Тялото (кръвта) на Христос.

Амин.

Нека се помолим.

Амин.

Заклучителни обреди

Благословение

Господ бъде с теб.

И с вашия дух.

Нека всемогъщият Бог да ви
благослови, Бащата и Синът и Светият
Дух.

Амин.

Уволнение

Излезте, масата приключи. Или:
Отидете и обявете Евангелието на
Господ. ИЛИ: Върви в мир, прославяйки
Господа до живота си. Или: Върви в
мир.

Благодаря на Бога.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC